



سوال

مسلمانوں پر قرآن مجید کا غلبہ کہاں تک ہے

جواب

الحمد للہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شریعت بنا کر نازل فرمایا اور لوگوں پر حلال و حرام اور امر و نہی کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنا لازم قرار دیا تو جو اس میں احکام ہیں ان پر عمل کرتے اور جو نواہی ہیں اس سے بچتے ہیں اور اس میں جو کچھ حلال کیا گیا ہے اسے وہ حلال اور جسے حرام کیا گیا ہے اسے حرام جانتے ہیں اور اس میں ہم سے پہلے لوگوں کی خبریں اور جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے اور ہمارے درمیان یہ فیصلے کرنے والا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :

(ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی)

اور اس کے نزول کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا :

(آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا)

اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو بیان اور مکمل کرتی ہے : نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

(خبردار میں قرآن اور اسی طرح کی اس کے ساتھ دیا گیا ہوں) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی کہ مثلاً یعنی سنت ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان دو دستوروں کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :

(اور اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ) تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا یہ ہے کہ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف لوٹنا یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ سنت رسول کی طرف۔

لہذا قرآن کریم شریعت کا پہلا مصدر ہے اور اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

واللہ اعلم.

اسلام سوال و جواب



فتویٰ نمبر: 2110